

# انجیل ۽ درونت ئے پہ زھگاں ماس پس



شہزادگ کہ  
شوان جوڈ بوت



نوشتہ کار: Edward Hughes

السرکار: M. Maillot; Lazarus  
Alastair Paterson

اپنائنگکار: E. Frischbutter; Sarah S.

مترجم کار: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

پیداوار کار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،  
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



یک روح ء موسی ء دیست کہ یک

مصری ء یک عبرانی گلامے را

کشت۔ اگان کہ موسی پر عون

ء گس ء پہ سیر و ازگاریں علم

و زانت در برتگ پدا ہم آ یک

عبرانی ئے ات

آئرا گلام ء

کمک کنگی

ات۔



موسی چارین نیمگان چارت که کسے ء ائرا گندگ ء نہ  
انت کہ آ گلامانی زالمیں سردار ء سرا ارش کرتگ جنگ  
دئیان ء موسی مصری کوش دات موسی زوت۔ ائرا کل  
کرت۔



دومی روچ ء موسیٰ دو عبرانی گون وتی جنگ ء دیست۔ آئی  
ایشان ء دارگ ء کوشست کرت۔ چه ہمیشاں یکے ء گشت کہ  
تہ من ء ہم چو ہما مصری ء وڈا کشے کے تہ زی کشت؟  
موسیٰ ء انو ترسے کپت۔ ہرچی کہ آئی زی کرت ات مچا۔ آ  
دیستگ ات پرعون ہم چه اے ہال ء سہی بوتگ موسیٰ را

انو و تہ رکینگی ات  
آ مدیان ء ملک

ء شت۔ تہ۔



وهدیکه موسی چات ۽ کرا آرام کنگ ۽ ات-مدیانی بیت  
گہار وتی پس ۽ رمگ ۽ را پہ آپ ۽ وارینگ ۽ اورت۔



دومی شوانان آئرا پشتہ کنزگ ء گشت موسی ہمے جنکانی  
کمک ء پھارت کرت۔



جنڪانی پس رعوئیل گشت که شما  
مرچی زوت گس ء ودي ات وهدیکه  
جنکاں آئی سبب گشت گڈا آئی پس  
ء درائینت ہمے مرد ء اد ء  
منی کرا بیار ات کہ شمئے  
کمک ء کرتہ موسی  
رعوئیل کہ آئر یتروبہ

ہم گش انت گوں ہمایی  
بوت۔ پدا موسی ء گوں  
رعوئیل ء مستریں  
جنک ء آروس کرت۔





مصر ۽ تها پر عون مدت پدا ہم  
عبرانی انگہ گلام اتان انچو کہ  
اوتی ستائی گ ۽ پدردیگ اتان  
هدا آیانی دعا اشکت ہر وڈ کہ



آیا۔ پہ کمک ۽ چہ ہدا  
دعا لوٹ ات ات۔



موسی سرپد نہ ات بلیں ہدا آئرا  
پہ عبرانی گلامانی کمک ء یک  
پندلے جوڈ کرت۔ مصر ء چل  
سال ات کہ موسی یلہ کرت ات آ  
رعوئیل ء رمگ ء شوان ات۔  
آ مصر ء تہ وتی مردمان ء  
یات ء کرت۔



یک روچ ۽ موسیٰ مارت کہ آئی  
نزیکیں کاجر ۽ آچ لگتہ بلئے چہ  
آچ ۽ کاجر نہ سوچگ ۽ ات، آئی  
پگر کرت کہ چوش پرچا  
بوہگ ۽ انت۔



هدا آئرا شه كاچرانی ته دن ء لوٹت موسی گشت هدا من  
حاضر او وهدیكه آنزیک سر بوت۔ هدا ء پرمان دات كه  
كاچرے كرا میاں وتی پازوار بكش چیاكه ہما جاہ ته  
اوشتاگ ئے آپاك انت۔



هدا پرمان دات کہ من ترا ہما مردمان چہ  
گلامی ء رکھینگ ء ہاترا پرعون ء کرا  
دیم دین بلئے موسیٰ چہ اودا  
روہگ ء ترسگ ء ات۔



ہمے وهدا هدا موسى ء را وتی مزنی تاگت نشان  
دات آئی موسی ء آسا په مار  
ء بدل دات۔ ا۔



وهدیکه موسی مار ء را چه آئی لٹک ء گپت۔  
گڈا آیک وار پدا آسا جوڈ  
بوت۔ هدا آئرا دگه یک  
نشانی ء دات۔



هدا پرمان دات كه وتى دست وتى سينگ ء  
اير كن، آئى انچو كرت.  
آئى دست ته كڏا چوبيرپ  
ء اسپيت بوت.






وهدیکه آئی دوهارگ انچو کرت گڈا آئی دست جوان بوت۔



موسی ء تنیگه اتراز ات۔ آئی نہ آئرا گشت۔ من جوانیں  
ء گشت نہ کنیں۔ ہدا چہ آئی ناراز ات ہدا پرمان دات  
کہ من تئی برات ہارون ء تئی گشتگیں لبزاں گشگ ء  
کارمرز کنیں۔



موسیٰ یثرو ۽ کراشت۔ وتی سامان ۽ بست  
انت ۽ مصر ۽ نیمگ ۽ رادھگ گپت۔



هدا ء۔ موسیٰ ء برات ہارون ء کوہے سرا گوں موسیٰ نیاد ء  
راہشونی کرت۔ موسیٰ ء ہارون ء عبرانی ء مصری آن ء چہ

گلامی ء رکھینگ ء پندل ء بات ء

سرپدی دات۔ دوئیناں یکجا ہوار ء

اے ہال عبرانی راہشون ء ہال دات۔

وہدیکہ موسیٰ عبرانی بزرگان

ء نشانی نشان دات

آنت گڈا آیاں زانت

کہ ہدا ایشانی کمک


ء کنت۔ آ درائیں

ہور ہدا ء دیم ء سر

بسجود بوت انت۔



گوں مزن جگری موسیٰ ءہارون پر عون ء  
کراشت انت آئی گوں پر عون گشت کہ ہدا  
و دبء پرمان انت کہ آئی  
بندغان یلہ  
بدے۔



پر عون ۽ ڀسو دات ڪه من اسرائيلي آن يله  
دات نه ڪننن- آئي هدا ۽ پرمان نه منت- هدا  
پر عون ۽ مجهگ بدل دئيگ ۽ هاترا وتي

نشاني ديم  
دات  
انت-



شہزادگ کہ شوان جوڈ بوت

یک قصہ ء خدا ء لوزان، انجیل

تہا دیدگ بوت

خروج ۵-۲

"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119



هلاس





انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔  
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانى کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آثارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا  
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہار دوست کنت او آوتی پاک ء زاگ چیزس ء  
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس  
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناہانی معافی لوٹے،  
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:  
جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ  
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا  
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ  
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ  
پہ زندگ بیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

